

صحیح کھانے سے لڑنے میں مدد ملتی ہے لیڈ پوائزنگ کے خلاف

لیڈ جسم کو یہ سوچنے کیلئے دھوکہ دیتا ہے کہ یہ آئرن، کیلشیم یا زنک ہے۔ صحت مند کھانے سے لیڈ کو جسم میں رینے سے روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔

اپنے بچے کو دن بھر خالی پیٹ نہ رینے دیں!



پانچ بنیادی خوراک کے گروپس

- روٹیاں، اناج اور بیج
- سبزیاں
- پھل
- دودھ اور دودھ کی مصنوعات
- گوشت، چکن، مجھلی، خشک میوے، اور پھلیاں



کیلشیم سے بھرپور غذائیں

- دودھ
- دہی
- پنیر (اسٹریکس کے لیے، کھانا پکانے میں جیسے میکرووی اور پنیر، پیزا، ٹارٹیس، سبزیاں)
- دودھ سے بنی غذائیں (کھیر، سوپ، آئس کریم، کسٹرڈ)
- سارڈیز یا ڈبہ بند سالمون (پتیوں کے ساتھ)
- ہری سبزیاں (گوبھی، کولارڈ گرینس، بروکولی)



زنک سے بھرپور غذائیں

- چکن یا فیل میغ
- بنا چرپی کا گوشت
- مجھلی
- دودھ اور پنیر
- کلیمز، سیپ، ٹسلز، کیکڑا
- خشک پھلیاں اور دال
- انڈے



لیڈ پوائزنگ کے خلاف آفیسیل پروگرام
(کنیکٹکٹ، پرنسپلز، آئرلینڈ، پرنسپلز، آفیسیل پروگرام)

لیڈ
پوائزنگ
کے
خلاف

آئرن سے بھرپور غذائیں



- بنا چربی سرخ گوشت، چکن، فیل مرغ اور مجھلی
- آئرن کی قوت سے بھرپور گرم اور ٹھنڈے اناج
- کلیمز، سیپ یا مسلز (پاستا کے لیے سوپ یا چٹنی بنانے کے لیے ڈبے میں بند استعمال کریں)
- گہرے سبز پتوں والی سبزیاں
- خشک پھلیاں، دلا مٹر، اور دیگر پھلیاں (پنٹو، سرخ، نیوی، کلنی، گاریانزو)
- انڈے
- خشک میوه

سبزیوں، اناج، پھلیاں، گری دار میویے اور انڈوں میں موجود آئرن جسم اپنے لئے مزید فائدہ مند بنا سکتا ہے جب آپ ایک بھی کھانے میں وٹامن سی سے بھرپور غذا کھاتے ہیں۔ اور نج، گریپ فروٹ، اسٹرایبری، کینٹالوپ، بڑی مرچ، گوبیہی، بروکولی اور آلو کچھ ایسی غذائیں بیس جن میں وٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔

صحت مند تجاویز:

- کھانوں کو مت فرائی کریں۔ انہیں پکائیں یا برائل کریں۔
- زیادہ چکنائی والی غذائیں نہ کھانے کی کوشش کریں۔ جب آپ انہیں کھائیں تو چھوٹے حصوں میں کھائیں۔
- وٹامن سی آپ کے جسم کو آئرن جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- 2 سال سے کم عمر کے بچے فارمولہ یا مان کا دودھ نہ پینے کے بعد انہیں ہول ملک پینا چاہیے۔ زیادہ تر 2 اور اس سے زیادہ عمر کے بچے کم چکنائی والا دودھ پی سکتے ہیں۔ دودھ سے الرجی والی بچے اپنی کیلشیم کی ضروریات کے لیے ٹوفو، سبز پتوں والی سبزیاں، سارڈینز یا ڈبے میں بند سالمن کھا سکتے ہیں۔
- چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں یا بڑوں سے خوراک کی کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ فعال لوگوں کو خوراک کے 5 گروپس میں سے ہر ایک سے بڑی تعداد میں مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔

کنیکٹیکٹ لیڈ پوائزنسنگ پریوینشن پروگرام

(860) 509-7299

www.choosemyplate.gov

www.ct.gov/dph/lead



CONNECTICUT
Public Health